

Application for Employment with CTC

Instructions

- Read the whole form carefully before starting to fill it in.
- This form should be completed in ink, in candidate's own handwriting.
- Attach copies (not originals) of all testimonials and certificates. A copy of CV and CNIC is mandatory.
- If space provided in the form for any particular information is inadequate, please attach additional sheets.
- If any information is given in this form is subsequently found to be incorrect, it will be construed as a gross misconduct, liable to be punished by instant dismissal and other disciplinary action as may be appropriate to the nature of misstatement.



(For official use only to be filled by CTC Staff) (سی ٹی سی سٹاف کی جانب سے پُر جانے گا)

عہدہ کا نام جس کے لئے درخواست دی گئی: (Position applied for) سیفٹی وارڈن

منتخب ہونے پر تعیناتی تربیت کی متوقع تاریخ: (سال/مہینہ/دن) _____

(Expected Date of Induction Training if selected)

| 1- ذاتی معلومات (Personal Information) | |
|---|---|
| مکمل نام (Full Name) | 1.1 <u>عمر حاض ۱۸۱</u> |
| شناختی کارڈ کا نمبر (CNIC No): | 1.2 <u>35401-9971865-1</u> |
| دیگر شناختی نمبر (شناختی کارڈ نمبر نہ ہونے کی صورت میں) (Other Identification number if CNIC is not available) | 1.3 <u>/</u> |
| تاریخ پیدائش (سال/مہینہ/دن) (Date of Birth (YYYY/MM/DD)) | 1.4 <u>23-03-1989</u> |
| تاریخ پیدائش کا جائزہ لیں (کسی ایک پر نشان لگائیں) (Check DOB) (Tick any One) | 1.4.1 <input checked="" type="checkbox"/> دن، مہینہ، سال معلوم ہے (Day, Month, Year Available) <input type="checkbox"/> صرف سال معلوم ہے (Only Year available) <input type="checkbox"/> تاریخ پیدائش معلوم نہیں (DOB not Mentioned) |
| والد شوہر/رہنوی رشتہ دار کا نام (Father's/Husband Name/ Name of i.e. Next Kin) | 1.5 <u>دین محمد</u> |
| امیدوار کے ساتھ رشتہ (Relationship with Applicant) | 1.6 <u>والد</u> |
| ازدواجی حیثیت (Marital Status) | <u>نہیں شاد</u> |
| صنف (Gender) | <u>مرد</u> |
| قبیلہ (Tribe) | <u>سنو</u> |
| ذات (Ethnicity) | <u>سنو راجپوت</u> |
| زبان (Language) | <u>صوبائی</u> |
| مکمل پتہ (Permanent Address) | 1.8 <u>بنگلہ کوسٹی اور کمان ڈائمنڈ گھلی اور کمان ضلع شیخوپورہ</u> |
| ضلع یا یونین کونسل (District and Union Council) | <u>شیخوپورہ / گھلی اور کمان</u> |
| موجودہ پتہ (Present Address) | 1.9 <u>بنگلہ کوسٹی اور کمان ڈائمنڈ گھلی اور کمان ضلع شیخوپورہ</u> |
| رابطہ کی تفصیل (Contact Detail) | 2.0 <u>0347-6500246</u> (Residence) / <u>بنگلہ</u> (E-mail) / <u>بنگلہ</u> (Office) |
| آخری تعلیمی سند (Last Qualification) | 2.1 <u>(2006) F.A</u> |

2- تعلیمی قابلیت (Qualification)

(List all your academic and technical qualifications, starting with school certificate (Matriculation))

تمام تعلیمی و تکنیکی قابلیت کی اسناد کی فہرست لکھیں (میٹرک سے شروع کریں)

| گرید/ڈویژن (Grade/Division) | اہم مضامین (Major Subjects) | سرٹیفکیٹ/حاصل کردہ ڈگری (Certificate/ Degree Obtained) | ادارہ (Institution) | سال (Year) |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|
| D | آرٹس | میٹرک | گورنمنٹ ہائی اسکول ناٹوہ | (2004) |
| D | آرٹس | ایف۔ اے | گورنمنٹ ڈگری کالج ناٹوہ | (2006) |

3- موجودہ ملازمت (Present Employment)

(Give details of your present employment. (If you are currently unemployed, give these details in respect of the last employment held by you).)

اگر آپ فی الحال بے روزگار ہیں، تو گزشتہ ملازمت کی تفصیلات فراہم کریں

| | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------|
| 3.1 | آجر کا نام | (Name of Employer) | مرفاض احمد |
| 3.2 | آجر کا مکمل پتہ | (Employer's Address) | بنگلہ کونٹری ڈورمان |
| 3.3 | تاریخ تعیناتی | (Date of Joining) | 14-07-2023 |
| 3.4 | آخری عہدہ | (Your Last Job Title) | |
| 3.5 | اہم ذمہ داریاں | (Main Duties) | سینئر وارڈن |
| 3.6 | جواز آئیےر کا نام اور عہدہ | (Name & Title of your Immediate Boss) | البرار اسی |
| 3.7 | مجموعی ماہانہ عہدہ (روپے میں) Gross Monthly Pay | | 34000/- |

4- سابقہ کام کا تجربہ (Past Work Experience)

(List all the previous jobs held by you, starting from the earliest).

آپ کی تمام سابقہ ملازمتوں کی فہرست کی تفصیل، آخری ملازمت سے شروع کریں

| اہم ذمہ داریاں (Main duties performed by you) | عہدہ آخری عہدہ جب ملازمت چھوڑی (Position held by you when you left this employer) | آجر کا نام اور پتہ (Employer's Name & Address) | دورانیہ دن۔ مہینہ۔ سال تا دن۔ مہینہ۔ سال (From/To) (D/M/Y to D/M/Y) |
|--|--|---|--|
| Accountant | Accountant | مرفاض احمد بنگلہ کونٹری ڈورمان | 4 سال |
| | | | |
| | | | |

5-حوالہ جات (References)

Give details of 3 references, not related to you by blood or marriage, who can vouch for your character and work experience. آپ کم از کم تین (3) حوالہ جات دیں جن کا تعلق آپ کے کسی خونی یا شادی سے جڑے رشتے سے نہ ہو، بلکہ آپ کے کردار اور کام کے تجربے سے واقف ہو۔

| | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|
| 5.1 | پہلا حوالہ First Referee | کامل نام (Full Name) کامل پتہ (Full Address) رابطہ نمبر (Contact Number) آپ کے ساتھ کام کی نوعیت (Nature of association with you) | محمد رفیق احمد بنگلہ کونسل ورکس ڈسٹرکٹ ہاؤس کھلی دریاں، پلاٹ 2، سیکو-بکروہ 0346-4190518 دوست |
| 5.2 | دوسرا حوالہ Second Referee | کامل نام (Full Name) کامل پتہ (Full Address) رابطہ نمبر (Contact Number) آپ کے ساتھ کام کی نوعیت (Nature of association with you) | اسرار رضا فلور شریف بکروہ نارنگی سٹریٹ 0321-4734397 دوست |
| 5.3 | تیسرا حوالہ Third Referee | کامل نام (Full Name) کامل پتہ (Full Address) رابطہ نمبر (Contact Number) آپ کے ساتھ کام کی نوعیت (Nature of association with you) | محمد عباس بنگلہ کونسل ورکس 0346-6389829 دوست |

6-عمومی معلومات (General Information)

| | | |
|-----|--|-----------|
| 6.1 | کیا آپ کو کوئی معذور یا بیماری تو نہیں ہے، اگر ہاں تو تفصیل بتائیں Do you suffer from any serious ailment or disability? If so, give details. | No |
| 6.2 | کیا آپ کبھی کسی کام کے سلسلے میں مجرم تو قرار نہیں پائے، اگر ہاں تو تفصیل بتائیں Have you ever been tried or convicted for nay crime? If so, give full details. | No |
| 6.3 | آپ کے خیال میں درخواست سے متعلق کوئی ایسی معلومات جو اس فارم میں موجود نہیں آپ ہمیں بتا سکتے رہتی ہیں۔ Give any other information not covered by this form which in your opinion is relevant to your application. | No |
| 6.4 | اگر ہم آپ کو اپنے ادارے میں کام کرنے کے لئے بلائیں، آپ کتنے عرصہ میں ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ If an offer is made to you, how soon can you join to us? | Forever |
| 6.5 | آپ کی متوقع تنخواہ اور دیگر فوائد کی کیا امید رکھتے ہیں؟ What are your salary and benefits expectations? | Satisfied |

7-عہدہ کی موزونیت (Suitability to the Position)

(Briefly explain why you consider yourself suitable for the position you have applied for). آپ کے خیال میں آپ کیوں اس عہدہ کے لئے زیادہ موزوں ہیں؟

میں اس عملے کے بارے میں اچھی معلومات رکھتا ہوں

درخواست گزار کا حلف نامہ

میں تصدیق کرتا کرتی ہوں کہ اوپر دی گئی تمام معلومات میرے علم اور یقین کے عین مطابق ہیں، درست اور مکمل ہیں، بعد میں کسی بھی معلومات کے غلط ہونے کی صورت میں تادیبی کارروائی کی ذمہ داری قبول کرتا کرتی ہوں۔

I confirm and certify that the information given above is true, correct and complete to the best of my knowledge and belief. I accept responsibility for any misstatement that be subsequently discovered.

امیدوار کے دستخط
(Candidate's Signature)

تاریخ (Date)
20/12/23




| Bank Account Information | |
|--------------------------|-----------------|
| Name of Employee | عرفان اسی |
| Designation | ننگر |
| Union Council / Area | گنگلی درقان |
| District / Agency | شکوہ پورہ |
| Contact No. | 0347-6500246 |
| CNIC No. | 35401-9971865-1 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Bank Account Title | EasyPaisa Account |
| Bank Name | 0347-4582429 |
| Bank Address | / |
| Bank Branch Code | / |
| Bank Account Number (With IBAN) | / |

I will be responsible for the results occurring due to any mistake/error in the above information and there will be no liability on Chip Training and Consulting Pvt. Ltd for any dues/funds payable to me.

عرفان اسی

Employee Signature
(Mandatory)



Employee Thumb Impression
(Mandatory)

Dated: 20/12/23

Note:

Employee will provide the bank account maintenance certificate with this letter for next salary processing.



CHIP TRAINING & CONSULTING

JOINING REPORT BY A NEW EMPLOYEE

| | |
|---|---------------------------------|
| Name of the Employee | مرفاض 121 |
| Position appointed to | سپیش وارڈن |
| Department and/or Location of appointment | تھیل سلطان ملک اسٹیشن ٹارگٹ سوڈ |
| CNIC# | 35401-9971865-1 |
| CNIC Expiry Date | 19-10-2030 |
| Date of Joining | 14-07-2023 |
| Date and Ref. No. of appointment letter | |
| Supervisors Comments | |
| Supervisors Signature | |



DECLARATION FORM

(TO BE FILLED BY THE EMPLOYEE)

I محمد قاضی, S/D/W/O دین, holding
CNIC 35401-9971865-1, Resident of Bangla, UC
کلیں غورنگا, Tehsil گورنگا, District گورنگا. Employee for
the position of سیکنڈری ٹیچر With CHIP Training & Consulting (Pvt) Ltd under its third
party contract for PTPP Project, do hereby declare as under:

1. That, I have not enrolled myself in any program in any college/university which comes under the category of regular studies and that currently I am not taking any regular classes.
2. That, I am not employed by any government department or private organizations neither have I any private business registered in my name nor am active partner in family business.
3. I shall be bound to declare - during the course of my employment - any of the above mentioned scenarios.
4. If found making a false or misleading statement when applying for this position with the company, I will be liable to instant dismissal, without benefits, on discovery of such falsehood or misrepresentation.

The following are the details of my regular studies or dual job, if any:

| Name | Regular Student Of | Department/ Institute Name | Working as employee with (Govt/Private) | Department/ Organization name | Private business, if any | Any other part time job |
|-----------|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| محمد قاضی | Govt H.S, Nodang | / | private | StarNet Shoes | no | no |
| محمد قاضی | Govt Degree College Nodang | / | / | // | / | / |
| محمد قاضی | nil | / | / | // above | / | / |

Declaration: I do hereby solemnly affirm and declare that the information provided above is true and correct and nothing has been concealed therein.

Signature

محمد قاضی

Date: 20.12.23



Disclosure of Relationship Form

(To be filled by Candidate)

I محمد قاضی, S/D/W/O دین محمد, Holding CNIC
35401-9971865-1, Resident of منظم,
UC گھنٹی پور، کلاں, Tehsil شکر پور, District
Candidate for the position of
with CHIP Training & Consulting (Pvt.) Ltd. under its
third party contract for PTPP project, do hereby declare as under:

1. That none of my blood/close relations which may include inter alia parents, brother, sister, husband, wife, spouse, children, maternal and paternal uncle, aunt, niece, nephew, brother/father/mother/sister-law or any other relationship which could come into the standard definition of "blood/close relation" is employed under PTPP project in the same district or PTPP or CTC offices in the same province where I am candidate for this position.
2. That, if selected for this position, I shall be bound to declare - during the course of my employment - any of my above said relationship if the same joins PTPP, CTC or/and WHO to CTC at the earliest.
3. The following blood/close relations (as mentioned in article 01 above) are employed within PTPP CTC or WHO as of the date mentioned below:

| Name | Designation | Organization | Province/District | UC | Relationship |
|-----------|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|
| محمد قاضی | | شیل | پنجاب / شکر پور | گھنٹی پور | |
| محمد قاضی | | شیل | " | " | |
| محمد قاضی | | شیل | " | " | |

Declaration: I do hereby solemnly affirm and declare that the information provided above is true and correct and nothing has been concealed therein.

Signature:

محمد قاضی

Date: 20.12.23



CHIP Training & Consulting (Pvt). Ltd
Declaration Form of Candidate for Residential Address
(To be filled & signed by Candidate)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|------|----------|------|------------|------------------|---------------|-------------------|----------|---------|
| Name of Candidate as per CNIC: | عرفاض احمد | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/D/W of; | دین محمد | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNIC NO: | 3 5 4 0 1 9 9 7 1 8 6 5 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position Applied: | Sahby warden | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permanent address as per CNIC: | <p>بنگم کونسل ورکان ڈاکس نہ</p> <p>بنگم کونسل ورکان تحصیل وردی</p> <p>ضلع سترپورہ</p> <table border="1"> <tr> <td>House No:</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Street #:</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>Mohallah:</td> <td>بنگم</td> </tr> <tr> <td>Village:</td> <td>بنگم</td> </tr> <tr> <td>Sector/UC:</td> <td>بنگم ورکان</td> </tr> <tr> <td>Town /Tehsil:</td> <td>نارتھ منڈی / وردی</td> </tr> <tr> <td>District</td> <td>سترپورہ</td> </tr> </table> | | House No: | 05 | Street #: | 02 | Mohallah: | بنگم | Village: | بنگم | Sector/UC: | بنگم ورکان | Town /Tehsil: | نارتھ منڈی / وردی | District | سترپورہ |
| House No: | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Street #: | 02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mohallah: | بنگم | | | | | | | | | | | | | | | |
| Village: | بنگم | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sector/UC: | بنگم ورکان | | | | | | | | | | | | | | | |
| Town /Tehsil: | نارتھ منڈی / وردی | | | | | | | | | | | | | | | |
| District | سترپورہ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Current Residential Address: | <p>(Kindly don't fill this section if permanent and residential addresses are same)</p> <p>✓</p> <table border="1"> <tr> <td>House No:</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Street#</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>Mohallah:</td> <td>بنگم</td> </tr> <tr> <td>Village:</td> <td>بنگم</td> </tr> <tr> <td>Sector/UC</td> <td>بنگم کونسل ورکان</td> </tr> <tr> <td>Town /Tehsil:</td> <td>نارتھ منڈی / وردی</td> </tr> <tr> <td>District</td> <td>سترپورہ</td> </tr> </table> | | House No: | 05 | Street# | 02 | Mohallah: | بنگم | Village: | بنگم | Sector/UC | بنگم کونسل ورکان | Town /Tehsil: | نارتھ منڈی / وردی | District | سترپورہ |
| House No: | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Street# | 02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mohallah: | بنگم | | | | | | | | | | | | | | | |
| Village: | بنگم | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sector/UC | بنگم کونسل ورکان | | | | | | | | | | | | | | | |
| Town /Tehsil: | نارتھ منڈی / وردی | | | | | | | | | | | | | | | |
| District | سترپورہ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Signature & Date: | Date of Form Filling: | Signature of Applicant: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20.12.23 | عرفاض احمد | | | | | | | | | | | | | | |

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

32933

Serial No. _____

Roll No. 0074364



BOARD OF INTERMEDIATE & SECONDARY EDUCATION, LAHORE

Intermediate ANNUAL Examination 2006.

HUMANITIES Group

Certified that IRFAZ AHMAD ✓
Son/Daughter of DIN MUHAMMAD ✓
Registered No. 00149-4106-2004 ✓
College/District GOVT. INTER COLLEGE, NARANG MANDI (SHEIKHUPURA) ✓

has passed the Intermediate Examination, conducted by this Board in FULL as a
REGULAR candidate. He/She offered the subjects and obtained the marks as follows:

| Sr.No. | SUBJECTS | MARKS | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------|
| | | Maximum | Obtained |
| 1. | URDU (COMPULSORY) | 200 | 070 |
| 2. | ENGLISH (COMPULSORY) | 200 | 061 * |
| 3. | ISLAMIYAT (COMPULSORY) | 50 | 32 |
| 4. | PAKISTAN STUDIES (COMPULSORY) | 50 | 37 |
| 5. | H&PHYSICAL EDUCATION | 200 | 092 |
| 6. | ISLAMIC STUDIES | 200 | 080 |
| 7. | CIVICS | 200 | 123 |
| TOTAL MARKS (In Figures) | | 1100 | 495 |
| (In Words) | | <u>FOUR HUNDRED NINETY FIVE ONLY</u> | |

External Grade D Internal Grade D

*QUALIFIED UNDER RULE 12 (CONCESSIONAL MARKS)

Lahore AUGUST 28, 2006


SECRETARY

Registration No. 00149-4106-2004

Roll No. 074364

Govt. Intermediate College

Narang District Sheikhupura



Character Certificate

Name IRFAZ AHMAD

Father's Name DIN MUHAMMAD

Examination Intermediate (Spring/Autumn) 199 2006

Group HUMANITIES Marks Obtained 495 /1100

Grade

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| <u>Internal Assessment</u> | <u>External Assessment</u> |
|----------------------------|----------------------------|

D

Games/Sports CRICKET Hobby READING

Extra Curricular Activities _____

Award / Distinction _____

Remarks GOOD OBEDINT, AND HARDWORK STUDENT.

Incharge Tutor

Dated

Principal

Govt. Intermediate College



حکومت پاکستان

قومی شناختی کارڈ

35401-9971865-1

نام: عمر فاضل احمد

مرد

ولد کانام: دین محمد

شناختی علاقہ: ڈائمن رخصارہ بد کل

تاریخ پیدائش: 23/03/1989

عثمان یوسف بھین

دستخط رجسٹرار جنرل



عمر فاضل احمد

دستخط حامل کارڈ



B0X2CJ

خاندان نمبر:

35401-9971865-1

شناختی نمبر:

فیروز والا

تحصیل فیروز والا

موجودہ پتہ: سنگھ، کوٹلی ورکال، ڈاکخانہ کھوجلی ورکال،

ضلع شیخوپورہ

سنٹکل پتہ: ایٹا

19/10/2030

تاریخ منسوخ:

19/10/2020

تاریخ اجراء:

گمشدہ کارڈ ملنے پر قریبی لیٹر بکس میں ڈال دیں

